

# Isa

## Chapter 14

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | כִּי                  | יְרַחֵם               | יְהוָה                | אֶת                   | יַעֲקֹב               | וּבְחַר               | עוֹד                  | בְּיִשְׂרָאֵל         | וְהִנִּיחָם           | עַל                   |
|   | کیونکہ                | رحم-کے-گا             | یہوواہ                | پر                    | یعقوب                 | اور-چُنے-گا           | پھر                   | اسرائیل-کو            | اور-بسائے-گا-انہیں    | پر                    |
|   |                       | <a href="#">H7355</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H0853</a> | <a href="#">H3290</a> | <a href="#">H0977</a> | <a href="#">H5750</a> | <a href="#">H3478</a> | <a href="#">H3240</a> |                       |
|   | اُن-کی-سرزمین         | اور-ملے-گا            | پر دیسی               | اُن-سے                | اور-شامل-ہوں-گے       | پر                    | گھرانے                | بیت                   | یعقوب-کے              | پر                    |
|   | <a href="#">H0127</a> | <a href="#">H1616</a> |

وہ گے، جائیں مل ساتھ کے اُن بھی پر دیسی گا۔ دے بسا میں ملک اپنے کے اُن انہیں کر چن کو اسرائیلیوں دوبارہ وہ گا، کھائے ترس پر یعقوب رب کیونکہ گے۔ جائیں ہو منسلک سے گھرانے کے یعقوب

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                              |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | وְלִקְחוּם            | עַמּוּם               | וְהִבְיָאֵם           | אֶל                   | מְקוֹמָם              | וְהִתְנַחֲלוּם               | בֵּית                 | יִשְׂרָאֵל             |
|   | اور-لیں-گے-انہیں      | قوموں-نے              | اور-لائیں-گے          | طرف                   | اُن-کی-جگہ            | اور-وراثت-میں-پائیں-گے-انہیں | گھرانے                | اسرائیل-نے             |
|   | <a href="#">H3947</a> | <a href="#">H0935</a> | <a href="#">H0413</a> | <a href="#">H4725</a> | <a href="#">H5157</a> | <a href="#">H3478</a>        | <a href="#">H3478</a> | <a href="#">H3478</a>  |
|   | پر                    | زمین                  | یہوواہ-کی             | غلاموں-کے-لیے         | اور-لونڈیوں-کے-لیے    | اور-ہوں-گے                   | قید-کرنے-والے         | اپنے-قید-کرنے-والوں-کے |
|   | <a href="#">H0127</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H5650</a> | <a href="#">H8198</a> | <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H7617</a>        | <a href="#">H7617</a> | <a href="#">H7617</a>  |
|   | اور-حکم-کریں-گے       | اپنے-ظالموں-پر        | اور-حکم-کریں-گے       | اور-حکم-کریں-گے       | اور-حکم-کریں-گے       | اور-حکم-کریں-گے              | اور-حکم-کریں-گے       | اور-حکم-کریں-گے        |
|   | <a href="#">H5065</a>        | <a href="#">H5065</a> | <a href="#">H5065</a>  |

میں ملک کے رب یہ اور گا، پائے میں ورثے کو پر دیسیوں ان گھرانے کا اسرائیل تب گی۔ دیں پہنچا واپس میں وطن کے اُن کر لے کو اسرائیلیوں قومیں دیگر اُن تھا کیا ظلم پر اُن نے جنہوں گے، رکھیں کئے جلاوطن وہ کو ہی اُن تھا کیا جلاوطن انہیں نے جنہوں گے۔ کریں خدمت کی اُن کر بن نوکرانیاں نوکر کے اُن گے۔ کریں حکومت وہ پر ہی

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 | וְהָיָה               | בְּיוֹם               | הַנִּחַח              | יְהוָה                | לָךְ                  | מִעֲצָבֶךָ            | וּמִרְגִזֶּךָ         | וּמִזֶּם              | הַעֲבָדָה             | הַקָּשָׁה             |
|   | اور-ہوگا              | دن-میں                | آرام-دے-گا            | یہوواہ                | تجھے                  | تیرے-غم-سے            | اور-بے-چینی-سے        | اور-سے                | غلامی                 | سخت                   |
|   | <a href="#">H1961</a> | <a href="#">H3117</a> | <a href="#">H5117</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H7267</a> | <a href="#">H7267</a> | <a href="#">H7267</a> | <a href="#">H5656</a> | <a href="#">H7186</a> |
|   | جو                    | کرائی-گئی             | تجھ-سے                |
|   | <a href="#">H5647</a> |

گادے آرام سے غلامی ظالمانہ اور بے چینی مصیبت، تجھے رب دن جس

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 | וְנִשְׂאָתָ           | הַמִּשְׁלָ            | הַזֶּה                | עַל                   | מֶלֶךְ                | בָּבֶל                | וְאִמְרָתָ            | אֵיךְ                 | שָׁבַת                | שָׁבַתָה              |
|   | اور-اُٹھائے-گا        | طعنہ                  | یہ                    | پر                    | بادشاہ                | بابل-کے               | اور-کہے-گا            | کیسے                  | ختم-ہوا               | ختم-ہوئی              |
|   | <a href="#">H5375</a> | <a href="#">H4912</a> | <a href="#">H2088</a> | <a href="#">H4428</a> | <a href="#">H0894</a> | <a href="#">H0559</a> | <a href="#">H0559</a> | <a href="#">H0559</a> | <a href="#">H5065</a> | <a href="#">H5065</a> |

مَدْرَجَاتِ:

سنہری-بھیڑ  
[H4062](#)

ہیں۔ گئے ہو ختم حملے کے اُس اور نابود و نیست ظالم ہے؟ بات کیسی ہے؟ یہ گا، گائے گیت کا طنز پر بادشاہ کے بابل ٹو دن اُس

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 | שָׁבַר                | יְהוָה                | מִטָּה                | רְשָׁעִים             | שָׁבַת                | מִשְׁלָיִם:           |
|   | توڑ-دیا               | یہوواہ-نے             | چھڑی                  | شریروں-کی             | لاٹھی                 | حکمرانوں-کی           |
|   | <a href="#">H7665</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H4294</a> | <a href="#">H7563</a> | <a href="#">H7626</a> | <a href="#">H4910</a> |

بے دیا کر نکڑے نکڑے عصا شاہی وہ کا حکمرانوں کر توڑ لائھی کی بے دینوں نے رب

|   |                       |          |                       |                       |                       |                       |               |                       |          |                       |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 6 | מַכָּה                | עַמִּים  | בְּעִבְרָה            | מִכַּת                | בְּלִי                | סָרָה                 | רָחָה         | בְּאֵף                | גּוֹלִים | מִרְדָּף              |
|   | مارنے-والا            | قوموں-کو | غضب-سے                | مار                   | بغیر                  | رکنے-کے               | حکم-کرنے-والا | غضب-سے                | قوموں-پر | پیچھا                 |
|   | <a href="#">H5221</a> |          | <a href="#">H5678</a> | <a href="#">H4347</a> | <a href="#">H1115</a> | <a href="#">H5627</a> |               | <a href="#">H0639</a> |          | <a href="#">H4783</a> |

בְּלִי חֲשׂוּד:  
 بغیر  
 روکے  
[H1097](#)  
[H2820](#)

رہا۔ پڑا پیچھے کے اُن سے بے رحمی کرتا، حکومت پر اُن سے غصے اور رہا مارتا مسلسل کو قوموں کر آ میں طیش جو

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | נַחַח                 | שְׁקֵטָה              | כָּל-                 | הָאָרֶץ               | פְּצַחוּ              | רָנָה:                |
|   | آرام-پائی             | خاموش-بوئی            | ساری                  | زمین                  | خوشی-سے-نعرے-لگائے    | گیت                   |
|   | <a href="#">H5117</a> | <a href="#">H8252</a> | <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H0776</a> | <a href="#">H6476</a> | <a href="#">H7440</a> |

بہیں۔ رہے دے سنائی نعرے کے خوشی طرف ہر اب ہے، ہوا حاصل سکون و آرام کو دنیا پوری اب

|   |                       |                       |                       |        |                       |                       |       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | גַּם-                 | בְּרוּשִׁים           | שְׂמֵחוּ              | לָךְ   | אֲרָזִי               | לְבָנוֹן              | מֵאֵז | שִׁכְבְּתָ            | לֹא-                  | יַעֲלֶה               | הַחֲרָת               |
|   | بھی                   | صنوبر                 | خوش-بوئے              | تجھ-پر | دیودار                | لبنان-کے              | جب-سے | لیٹا-ٹو               | نہیں                  | چڑھے-گا               | کاٹنے-والا            |
|   | <a href="#">H1571</a> | <a href="#">H1265</a> | <a href="#">H8055</a> |        | <a href="#">H0730</a> | <a href="#">H3844</a> |       | <a href="#">H7901</a> | <a href="#">H3808</a> | <a href="#">H5927</a> | <a href="#">H3772</a> |

עָלִינוּ:  
 ہم-پر

نہیں کاٹنے ہمیں کر چڑھ بہاں کوئی گیا دیا گرا ٹو سے جب ہے! شکر ہیں، کہتے کر ہو خوش پر انجام تیرے بھی دیودار کے لبنان اور درخت کے جونیپر آتا۔

|   |                       |                       |                       |          |                       |                       |                       |          |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 | שְׂאוּל               | מִתְחַת               | רִנְיָה               | לָךְ     | לְקִרְיַת             | בּוֹאֵף               | עוֹרֵר                | לָךְ     | רְפָאִים              | כָּל-                 | עֲתוּדֵי              |
|   | پاتال                 | نیچے-سے               | لرزی                  | تیرے-لیے | ملنے-کے-لیے           | تیرے-آنے-کے           | جگائے                 | تیرے-لیے | ارواح                 | سب                    | سرداروں               |
|   | <a href="#">H7585</a> | <a href="#">H8478</a> | <a href="#">H7264</a> |          | <a href="#">H7125</a> | <a href="#">H0935</a> | <a href="#">H5782</a> |          | <a href="#">H7496</a> | <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H6260</a> |

אָרֶץ  
 زمین-کے  
 اُنھایا  
 اُن-کے-تختوں-سے  
 سب  
 بادشاہوں  
 قوموں-کے  
[H0776](#)  
[H3678](#)  
[H3605](#)  
[H4428](#)

اپنے بادشاہ تمام کے اقوام اور رئیس تمام کے دنیا وہاں ہے۔ رہا لا میں حرکت کو روحوں مُردہ وہ میں انتظار تیرے ہے۔ گیا بل باعث کے اُترنے تیرے پاتال گے۔ کریں استقبال تیرا کر ہو کھڑے سے تختوں

|    |                       |           |                       |                       |                       |        |                       |                       |                       |              |
|----|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 10 | כָּלֵם                | יַעֲזֹבוּ | וַיֵּאמְרוּ           | אֵלֶיךָ               | גַּם-                 | אֲתָהּ | חֲלִיתָ               | כְּמוֹנִי             | אֵלֵינוּ              | נִמְשָׁלְתָ: |
|    | سب-نے                 | جواب-دیا  | اور-کہا               | تجھ-سے                | بھی                   | ٹو     | کمزور-ہوا             | ہماری-طرح             | ہمارے-جیسا            | ہو-گیا       |
|    | <a href="#">H3605</a> |           | <a href="#">H0559</a> | <a href="#">H0413</a> | <a href="#">H1571</a> |        | <a href="#">H5782</a> | <a href="#">H3644</a> | <a href="#">H0413</a> |              |

ہے! گیا ہو برابر ہمارے بھی ٹو ہے، گیا ہو کمزور جیسا ہم بھی ٹو اب گے، کہیں سے تجھ کر مل سب

|    |                       |                       |                       |                       |                |                       |                       |                       |                       |            |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 11 | הוֹרֵר                | שְׂאוּל               | נְאוֹנָף              | הַמִּנָּה             | נְבֻלָּיִף     | תַּחְתּוֹיִף          | יִצְעַ                | רָמָה                 | וּמִכְסִיף            | תּוֹלְעָה: |
|    | اُتارا-گیا            | پاتال-میں             | تیرا-غرور             | آواز                  | تیرے-بربطوں-کی | تیرے-نیچے             | بجھئے-گئے             | کیڑے                  | اور-تیرا-بستر         | کیڑے       |
|    | <a href="#">H3381</a> | <a href="#">H7585</a> | <a href="#">H1347</a> | <a href="#">H1998</a> |                | <a href="#">H8478</a> | <a href="#">H3331</a> | <a href="#">H7415</a> | <a href="#">H4374</a> |            |

گے۔ ہوں کمبل تیرا کیچوے اور گدا تیرا کیڑے اب ہیں۔ گئے ہو خاموش ستار تیرے ہے، گئی اُتر میں پاتال شوکت و شان تمام تیری

|    |      |                       |                       |                       |       |                       |                       |                       |                       |      |
|----|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 12 | אֵיף | נִפְלֵתָ              | מִשְׁמַיִם            | הַיָּלָל              | בֶּן- | שָׁחַר                | נִנְדְעָתָ            | לְאָרֶץ               | חֹזֵלֶשׁ              | עַל- |
|    | کیسے | گرا-ٹو                | آسمانوں-سے            | صبح-کا-ستارہ          | بیٹے  | فجر-کے                | کانا-گیا-ٹو           | زمین-پر               | کمزور-کرنے-والا       | پر   |
|    |      | <a href="#">H5307</a> | <a href="#">H8064</a> | <a href="#">H1966</a> |       | <a href="#">H7837</a> | <a href="#">H1438</a> | <a href="#">H0776</a> | <a href="#">H2522</a> |      |

גּוֹלִים:  
 قوموں



|    |              |                  |                      |                        |                 |                           |                     |                          |                 |              |
|----|--------------|------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| 20 | לֹא-<br>نہیں | תָּחַד<br>ملے-گا | אֲתֶם<br>اُن-کے-ساتھ | בְּקְבוּרָה<br>دفن-میں | כִּי-<br>کیونکہ | אֲרָצָה<br>اپنی-سرزمین-کو | שָׁחָה<br>برباد-کیا | עַמּוּזָה<br>اپنی-قوم-کو | הָרְגָה<br>مارا | לֹא-<br>نہیں |
|    | H3808        | H3161            | H0854                | H6900                  |                 | H0776                     | H7843               |                          | H2026           | H3808        |

יְקָרָא  
پکاری-جائے-گی

לְעוֹלָם  
بمیشہ-تک

זָרַע  
نسل

מְרַעִים:  
بدکاروں-کی

H2233 H5769 H7121

ان تک ابد سے اب چنانچہ ہے۔ دیا کر ہلاک کو قوم اپنی اور تباہ کو ملک اپنے نے تو کیونکہ گا۔ ملے نہیں جا سے بادشاہوں دیگر تو وقت کے تدفین اور  
گا۔ جائے کیا نہیں تک ذکر کا اولاد کی بے دینوں

|    |                       |                                 |                     |                             |                                |                    |                   |                              |
|----|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 21 | הִכְיִנוּ<br>تیار-کرو | לְבָנָיו<br>اُس-کے-بیٹوں-کے-لیے | מִטְּבַח<br>ذبح-گاہ | בְּעֵזְרִי<br>بدکاری-کے-سبب | אֲבוֹתָם<br>اُن-کے-باپ-دادا-کی | בֵּל-<br>تاکہ-نہیں | יִקְמוּ<br>اُنھیں | וַיִּרְשׁוּ<br>اور-قبضہ-کریں |
|    | H3423                 |                                 | H4293               | H5771                       | H0001                          | H1077              |                   | H3423                        |

אֲרָץ  
زمین

וּמְלָאוּ  
اور-بھریں

פְּנֵי-  
روئے

תִּבְלָה  
دنیا-کو

עָרִים:  
شہروں-سے

H8398 H6440 H4390 H0776

کر اُنھ دوپارہ وہ کہ ہو نہ ایسا ہے۔ ہی مرنا اُنھیں کہ بے سنگین اتنا قصور کا دادا باپ کے اُن کیونکہ کرو! تیار جگہ کی دینے پھانسی کو بیٹوں کے آدمی اس  
جائے۔ پھر سے شہروں کے اُن زمین روئے کہ لیں، کر قبضہ پر دنیا

|    |                             |                         |                |                  |                       |                                  |                         |               |                      |                      |
|----|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 22 | וּקְמִתִּי<br>اور-اُنھوں-گا | עֲלֵיהֶם<br>اُن-کے-خلاف | נָאֵם<br>فرمان | יְהוָה<br>یہوواہ | צְבָאוֹת<br>لشکروں-کے | וְהִכְרַתִּי<br>اور-کات-ڈالوں-گا | לְבָבָהּ<br>بابل-کے-لیے | נָשָׁם<br>نام | וּשְׂאָר<br>اور-باقی | וְגִזָּן<br>اور-بیٹا |
|    |                             |                         | H5002          | H3068            |                       | H3772                            | H0894                   | H8034         | H7605                | H5209                |

וְנָכַד  
اور-پوتا

נָאֵם-  
فرمان

יְהוָה:  
یہوواہ-کا

H5220 H5002 H3068

ایک اور گا، دوں منا سے پر زمین روئے کو اولاد کی اُس میں گا۔ رہے نہیں تک نشان و نام کا بابل کہ گا اُنھوں یوں خلاف کے اُن میں ہے، فرماتا الافواج رب  
کا۔ بچنے نہیں بھی

|    |                                    |                    |                    |                          |                  |                                    |                          |                       |                |
|----|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| 23 | וּשְׂמִתִּיהָ<br>اور-بناؤں-گا-اُسے | לְמוֹרָשׁ<br>ملکیت | קִפְדָה<br>سابی-کی | וְאֲנִמִּי-<br>اور-تالاب | מַיִם<br>پانی-کے | וַיִּטְאֲטֹא<br>اور-جھاڑوں-گا-اُسے | בְּמִטְאֲטֵא<br>جھاڑو-سے | הַשְּׂמֹד<br>تباہی-کے | נָאֵם<br>فرمان |
|    |                                    | H4180              | H7090              | H0098                    | H4325            | H2894                              | H4292                    | H8045                 | H5002          |

יְהוָה  
یہوواہ

צְבָאוֹת:  
لشکروں-کے

H3068

ہے۔ فرمان کا الافواج رب یہ گا۔ دوں پھیر جھاڑو کا تباہی میں اُس خود میں کیونکہ گا، جائے بن علاقہ کا دلدل اور مسکن کا خاریشت بابل

|    |                        |                     |                       |                        |                |             |                   |                          |              |                 |
|----|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 24 | נִשְׁבַּע<br>قسم-کھائی | יְהוָה<br>یہوواہ-نے | צְבָאוֹת<br>لشکروں-کے | לְאֹמְרֵי<br>کہتے-ہوئے | אִם-<br>یقیناً | לֹא<br>نہیں | כְּאֲשֶׁר<br>جیسے | דְּמִיתִי<br>سوچا-میں-نے | כִּן<br>ایسے | הַיְתָה<br>ہوگا |
|    | H7650                  | H3068               |                       | H0559                  |                | H3808       |                   | H1819                    |              | H1961           |

וּכְאֲשֶׁר  
اور-جیسے

יַעֲזָבִי  
مشورہ-کیا-میں-نے

הִיא  
وہی

תִּקוּם:  
قائم-رہے-گی

H1931 H3289

گا۔ جائے ہو پورا ضرور ارادہ میرا گا، ہو ہی مطابق کے منصوبے میرے کچھ سب یقیناً ہے، فرمایا کر کھا قسم نے الافواج رب

|    |                       |                       |                       |        |                       |                       |                       |            |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 25 | לְשׁוֹר               | אֲשׁוּר               | בְּאֶרְצָי            | וְעַל- | הָרִי                 | אֲבוֹסֶנֶה            | וְסָר                 | מִעֲלֵיהֶם |
|    | توڑنے کے لیے          | اسور کو               | میری سرزمین میں       | اور پر | میرے پہاڑوں           | روندوں کا اُسے        | اور ہٹے گا            | ان سے اوپر |
|    | <a href="#">H7665</a> | <a href="#">H0804</a> | <a href="#">H0776</a> |        | <a href="#">H2022</a> | <a href="#">H0947</a> | <a href="#">H5493</a> |            |

|                       |                       |         |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| عِلָּו                | וְסִבְלוֹ             | מִעַל   | שָׁכְמוֹ              | וְסוּר:               |
| اُس کا جوا            | اور اُس کا بوجھ       | سے اوپر | اُس کے کندھے          | بنے گا                |
| <a href="#">H5923</a> | <a href="#">H5448</a> |         | <a href="#">H7926</a> | <a href="#">H5493</a> |

بوجھ کا اُس اور گا، جائے ہو دُور سے پر قوم میری جوا کا اُس تب گا۔ ڈالوں کچل پر پہاڑوں اپنے اُسے اور گا دوں کر چُور چکنا میں ملک اپنے کو اسور میں گا۔ [ ] جائے اُتر سے پر کندھوں کے اُس

|    |                       |                       |                       |      |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 26 | זָאת                  | הַעֲצָה               | הַיְעוֹצָה            | עַל- | כָּל-                 | הַגְּזוּיִם:          |
|    | یہ                    | مشورہ ہے              | طے شدہ                | پر   | ساری                  | قوموں                 |
|    | <a href="#">H2063</a> | <a href="#">H6098</a> | <a href="#">H3289</a> |      | <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H3605</a> |

ہے۔ چکا بڑھا خلاف کے قوموں تمام ہاتھ اپنا رب اور ہے، اٹل منصوبہ یہ میں بارے کے دنیا پوری

|    |                       |        |                       |                       |         |                       |                       |                       |         |
|----|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 27 | כִּי-                 | יְהוָה | צְבָאוֹת              | יַעַן                 | וּמִי   | יִפָּר                | וְיָדוּ               | הַגְּזוּיָה           | וּמִי   |
|    | کیونکہ                | یہوواہ | لشکروں کے             | مشورہ کیا ہے          | اور کون | توڑے گا               | اور اُس کا ہاتھ       | بڑھا ہوا ہے           | اور کون |
|    | <a href="#">H3068</a> |        | <a href="#">H3289</a> | <a href="#">H4310</a> |         | <a href="#">H3027</a> | <a href="#">H5186</a> | <a href="#">H4310</a> |         |

יְשִׁיבֶנָּה: **פ**  
بنائے گا اُسے  
[H7725](#)

گا؟ روکے اُسے کون تو ہے، دیا بڑھا ہاتھ اپنا نے اُس گا؟ کرے منسوخ اسے کون تو ہے، لیا کر فیصلہ نے الافواج رب

|    |                       |                       |                       |                       |                       |            |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 28 | בְּשָׁנֹת-            | מָוֶת                 | הַמֶּלֶךְ             | אֲחֻז                 | הָיָה                 | הַמִּשְׁאָ | הַזֶּה:               |
|    | سال میں               | موت                   | بادشاہ                | آجاز کی               | تھا                   | بوجھ       | یہ                    |
|    | <a href="#">H8141</a> | <a href="#">H4194</a> | <a href="#">H4428</a> | <a href="#">H0271</a> | <a href="#">H1961</a> |            | <a href="#">H2088</a> |

پائی۔ وفات نے بادشاہ آخز جب ہوا نازل سال اُس کلام کا ذیل

|    |                       |                       |                       |                       |      |                       |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 29 | אֶל-                  | הַשְּׁמָחִי           | פְּלִשְׁתִּים         | כָּלֵךְ               | כִּי | נִשְׁבָּר             | נִשְׁבָּר             | מִשְׁרָשׁ             | נִחַשׁ                |
|    | مت                    | خوش ہو                | فلسطین                | ساری                  | کہ   | ٹوٹ گئی               | لاٹھی                 | جز سے                 | سانپ کے               |
|    | <a href="#">H0408</a> | <a href="#">H8055</a> | <a href="#">H6429</a> | <a href="#">H3605</a> |      | <a href="#">H7665</a> | <a href="#">H7626</a> | <a href="#">H8328</a> | <a href="#">H5175</a> |

יֵצֵא **ז**  
نکلے گا  
اور اُس کا پھل  
اڑتا ہوا  
اڑنے والا  
[H6529](#)  
[H3318](#)

اور گا، نکلے پھوٹ سانپ زہریلا سے جڑ ہوئی بجی کی سانپ کیونکہ ہے۔ گئی ٹوٹ لاٹھی والی مارنے ہمیں کہ منا مت خوشی پر اس ملک، فلسطی تمام اے گا۔ بو اڑدبا اڑن فشاں شعلہ پھل کا اُس

|    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |          |          |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 30 | וְרָעוּ               | בְּכוּרֵי             | רָלִים                | וְאֲבוֹנוֹיִם         | לְבַטַּח              | יִרְבְּצוּ            | וְהִמְתִּי            | בְּרָעַב | שָׂרִישׁ |
|    | اور چریں گے           | پہلوٹھے               | غریبوں کے             | اور محتاج             | امان سے               | لیٹیں گے              | اور ماروں گا          | قحط سے   | تیری جڑ  |
|    | <a href="#">H1060</a> | <a href="#">H1800</a> | <a href="#">H0034</a> | <a href="#">H0983</a> | <a href="#">H4191</a> | <a href="#">H7458</a> | <a href="#">H8328</a> |          |          |

וְשִׁאֲרֵיהֶם **י**  
اور تیرے باقی کو  
مار ڈالے گا  
[H7611](#)  
[H2026](#)

بھی اُنہیں جائیں بیج جو اور گا، دوں مار سے کال میں کو جڑ تیری لیکن گے۔ کریں آرام پر جگہ محفوظ غریب اور گی، ملے چراگاہ کو مندوں ضرورت تب گا۔ دوں کر ہلاک

|    |                       |                       |                       |     |                       |                       |                       |        |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 31 | הילולי                | שלער                  | זעקיר                 | עיר | נמוג                  | פלשתי                 | קלד                   | קי     | מזפון                 | עשן                   | קא                    |
|    | واویلا-کر             | دروازے                | چیخ                   | شہر | پگھل-گیا              | فلسطین                | ساری                  | کیونکہ | شمال-سے               | دھواں                 | آ-رہا-ہے              |
|    | <a href="#">H3213</a> | <a href="#">H8179</a> | <a href="#">H2199</a> |     | <a href="#">H4127</a> | <a href="#">H6429</a> | <a href="#">H3605</a> |        | <a href="#">H6828</a> | <a href="#">H6227</a> | <a href="#">H0935</a> |

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| یا                    | بو                    | کمو                   |
| اور-نہیں-ہے           | بچھڑنے-والا           | اُس-کی-قطاروں-میں     |
| <a href="#">H0369</a> | <a href="#">H0909</a> | <a href="#">H4151</a> |

اور ہے، رہا بڑھ دھواں طرف تمہاری سے شمال کیونکہ جاؤ۔ لڑکھڑاتے کر بار ہمت فلسطیو، اے مارا! چیخیں سے زور شہر، اے کرا! واویلا دروازے، کے شہر اے ہے۔ نہیں کوئی والا رہنے پیچھے میں صفوں کی اُس

|    |                       |            |                       |        |    |                       |                       |                       |             |                       |
|----|-----------------------|------------|-----------------------|--------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 32 | ומזה                  | יענה       | מלאכי                 | גוי    | כי | יהודה                 | יסד                   | ציון                  | ובה         | יחסו                  |
|    | اور-کیا               | جواب-دے-گا | قاصدوں                | قوم-کے | کہ | یہوواہ-نے             | بنیاد-رکھی            | صیون-کی               | اور-اُس-میں | پناہ-لیں-گے           |
|    | <a href="#">H4100</a> |            | <a href="#">H4397</a> |        |    | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H3245</a> | <a href="#">H6726</a> |             | <a href="#">H2620</a> |

|                       |               |   |
|-----------------------|---------------|---|
| עני                   | עמו:          | ס |
| غریب                  | اُس-کی-قوم-کے | — |
| <a href="#">H6041</a> |               |   |

گے۔ لیں پناہ میں اسی مظلوم کے قوم کی اُس کہ ہے، رکھا قائم کو صیون نے رب کہ یہ دیں؟ جواب کیا ہم کو قاصدوں ہوئے بھیجے پاس ہمارے پھر تو